

اگر کوئی نماز سونے کی وجہ سے رہ گئی تو کیا اسے گناہ ہوگا؟

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ہمیں کسی نے یہ بتا یا ہے کہ اگر کسی کی ریگولر فجر مس ہو جائے تو جیسے ہی وہ اٹھے اسے فجر پڑھنا جائز ہے اگرچہ کوئی سا بھی ٹائم ہو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نیند کی وجہ سے فجر چھوٹ گئی تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟

سائل: زبیرہ فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

بلا عذرِ شرعی ریگولر فجر کی نماز قضا کر کے پڑھنا کبیرہ گناہ اور حرام ہے بلکہ فقہاء احناف نے یہاں تک فرمایا کہ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز قضا ہو جائے گی تو بلا ضرورتِ شرعیہ اُسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔ جیسا کہ بہار شریعت میں ہے۔ جب یہ اندیشہ ہو کہ صبح کی نماز جاتی رہے گی تو بلا ضرورتِ شرعیہ اُسے رات میں دیر تک جاگنا ممنوع ہے۔

(بہار شریعت ج 1 حصہ 4 ص 701 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

اور ہاں اگر کبھی سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئی اور اس کی جانب سے کوئی قصور نہ تھا (یعنی رات دیر تک جاگتا نہ رہا ہو) تو اس پر ضروری ہے کہ اس کی قضا پڑھے البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے تاخیر مکروہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا"

(الصحيح المسلم كتاب الصلوة باب قضاء الفائتة --- رقم 684)

اور بہار شریعت میں ہے کہ سوتے میں یا بھولے سے نماز قضا ہوگئی تو اس کی قضا پڑھنی فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ اس پر نہیں مگر بیدار ہونے اور یاد آنے پر اگر وقت مکروہ نہ ہو تو اسی وقت پڑھ لے تاخیر مکروہ ہے۔ اور آگے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اکثر حصہ رات کا جاگنے میں گزرا اور ظن ہے کہ اب سو گیا تو وقت میں آنکھ نہ کھلے گی (تو سونے کی اجازت نہیں)

(بہار شریعت ج 1 حصہ 4 ص 701 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ)

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 18-09-2017

## IS IT A SIN IF SALAH IS MISSED DUE TO SLEEP?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

**What do the scholars and muftis of the noble Shari'ah say regarding the following matter; we have been told that if someone regularly misses the Fajr prayer, he/she can pray it soon after waking up, regardless of the time. Is this correct? Is it a sin if the Fajr salah was missed due to sleep?**

Questioner: Zuhayrah from England

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

It is *haram* (prohibited) and a major sin to regularly miss the Fajr prayer and offer it later (when its time has passed), without any legally valid excuse. The Hanafi jurists have even stated that if someone fears missing the Fajr prayer, it is not permissible for him to stay awake until late night without any legally valid need.

It is stated in Bahar-e Shari'at: "If one fears missing the Fajr prayer, it is impermissible for him to stay awake until late night without any legally valid need." [Bahar-e Shari'at, vol. 1, part 4, pg. 701]

If someone misses salah due to sleep or forgetfulness, and it was not his fault (i.e. if he did not stay awake until late night), then it is necessary for him to make up for the prayer. However, he is not sinful for the missed prayer. He must pray the missed prayer upon waking up or remembering, if it is not a disliked time for prayer. Delay in offering the missed prayer is *makruh* (disliked).

The Messenger of Allah ﷺ stated:

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا

Translation: "He who forgets the prayer, or he slept (and it was omitted), its expiation is (only) that he should observe it when he remembers it." [Sahih Muslim, hadith no. 684]

It is stated in Bahar-e Shari'at: "It is *fard* (obligatory) to make up a prayer that was missed due to sleep or forgetfulness. However, he is not sinful for the missed prayer. He must pray the missed prayer upon waking up or remembering, if it is not a disliked time for prayer. Delay in offering the missed prayer is *makruh* (disliked)."

It is further stated: "If a major part of the night was spent in wakefulness, and he suspects that if he sleeps, he will not be able to wake up on time, then it is not permitted to sleep." [Bahar-e Shari'at, vol. 1, part 4, pg. 701]

والله اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم  
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

**Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri**

**Translated by the SeekersPath Team**